



## سوال

(488) فرقہ بھریہ کا تعارف

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ملک الجزائر میں تصوف کے دو سلسلے پائے جاتے ہیں، جو اپنے بڑے شیخ ”پیر ہبری“ کی نسبت سے ”ہبری“ کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق شریعت اسلامی کا کیا حکم ہے؟ ان کے شیخ ”محبوب حضرت“ کے نام سے معروف ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف ہبری لوگ ہی سیدھے رستے پر ہیں باقی تمام مسلمان گمراہ ہیں۔ کیا یہ سلسلہ طریقت صحیح ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صحیح محفوظ راستہ وہی ہے جس پر جناب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ گامزن رہے۔ جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہی سیدھے رستے پر ہوگا۔ دوسرے طرق جو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں انہیں شریعت اسلامی کی روشنی میں رکھا جائے گا۔ جو بات شریعت کے مطابق ہوگی قبول کی جائے گی جو خلاف ورزی ہوگی رد کر دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَنَّ بَدَايَئِهِمْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۵۳... الانعام

”بلاشبہ یہی میرا طریقہ ہے جو (بالکل) سیدھا ہے لہذا تم اس کی پیروی کرو اور (دوسری) راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اس (اللہ) کے رستے سے جدا کر دیں گے۔ اس نے تمہیں نصیحت کی ہے تاکہ تم نہ بھٹ جاؤ۔“

ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، تفسیر کی کتابوں۔ خصوصاً ابن جریر اور ابن کثیر کی تفسیروں کا مطالعہ کریں۔ حدیث کی کتابوں اور ان کی شروحات پڑھیں خصوصاً صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن اربعہ اور حدیث کی کتابیں۔ مثلاً منتقى الآثار، بلوغ المرام، رياض الصالحين اور ابن قيم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد فی خیر المعاد پڑھیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتوى  
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

# فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ